4824CH05

5

جب عوام بغاوت کرتی ہے

1857 اوراس کے بعد

شکل 1 – سپاہی اور کسان اس بغاوت کے لیے طاقت اکٹھا کرتے ہوئے۔یہ بغاوت 1857 میں شمالی ہندوستان کے میدانوں میں پھیل گئی تھی

پالیسیاں اور عوام

پچھلے ابواب میں آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیوں اور مختلف افراد پر پڑنے والے ان کے اثرات کا مطالعہ کیا۔ راجے، رانیاں، کسان، زمیندار، آدی واسی اور سپاہی سب ان پالیسیوں سے الگ الگ متاثر ہوئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اپنے مفاد یا جذبات کے خلاف پالیسیوں اور کارروائیوں کا مقابلہ کس طرح کرتے تھے۔

نوابوں نے اپنے اختیارات کھودیے

اٹھارھویں صدی کے وسط ہی سے نوابوں اور راجاؤں نے اپنی طاقت کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ انھوں نے اپنے اختیارات اور اپنی عظمت کھودی۔ بہت سے درباروں میں ریزیڈنٹ

بٹھا دیے گئے، حکمرانوں کے اختیارات میں کمی کر دی گئی۔ ان کی فوج پر پابندی عائد کر دی گئی اور بتدریج ان کے محاصل اور حدودِ مملکت پر قبضہ کر لیا گیا۔

کئی حکمراں خاندانوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کمپنی سے مصالحت کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد گود لیے ہوئے بیٹے کو وارث کے طور پر قبول کیے جانے کی خواہش کی۔ پیشوا باجی راؤ دوم کے متبنیٰ نانا صاحب نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی پنشن اپنے نام جاری کیے جانے کے حق میں دلائل دیے۔ لیکن کمپنی نے اپنی برتری اور فوجی قوت کے زعم میں ان درخواستوں کو ٹھکرا دیا۔

الحاق کی جانے والی ریاستوں میں اودھ سب سے آخری ریاست تھی۔ 1801 میں اس کے ساتھ اتحاد کا عہد کیا گیا اور بالآخر 1856 میں اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ گورنر جنرل ڈلہوزی نے اعلان کیا کہ ریاست میں بدانتظامی کا دور دورہ ہونے کی وجہ سے حسنِ انتظام کی خاطر انگریزوں کی حکومت وہاں ضروری ہو گئی ہے۔

کمپنی اب مغلیہ خاندان کو ختم کرنے کی تدبیریں کرنے لگی۔ کمپنی کے ڈھالے ہوئے سکوں پر سے مغل بادشاہ کا نام مٹا دیا گیا۔ 1849 میں گورنر جنرل ڈلہوزی نے اعلان کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے انتقال کے بعد شاہی خاندان کو لال قلعے سے بے دخل کر دیا جائے گا اور دہلی میں ہی کسی دوسری جگہ ان کو بسا دیا جائے گا۔ 1856 میں گورنر جنرل کیننگ نے فیصلہ کیا کہ بہادر شاہ ظفر کی موت کے بعد بادشاہت ختم کر دی جائے گی اور اس کے وارثین صرف شہزادے کہلائیں گے۔

کسان اور سپاہی

گاؤں میں کسان اور زمیندار زبردست ٹیکسوں اور وصول یابی کے انتہائی سخت طریقوں کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ساہوکاروں کو اپنا قرض واپس نہ کر پانے کی وجہ سے اپنی آبائی زمینوں سے بتدریج بے دخل کر دیے گئے۔

کمپنی سے ہندوستانی سپاہیوں کی بے اطمنانی کے بھی اسباب تھے۔ وہ اپنی تنخواہ، بھتہ اور ملازمت کی شرائط سے خوش نہیں تھے۔ کچھ نئے قوانین ان کے مذہبی عقائد کے خلاف تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں بہت سے ہندوستانی اس بات پر یقین رکھتے تھے

سرگرمی

تصور کیجیے کہ آپ کمپنی کی فوج کے ایک سپاہی ہیں اور اپنے بھتیجے کو فوج کی ملازمت سے روکنا چاہتے ہیں۔ آپ اسے کون سے دلائل دیں گے؟

کہ اگر انھوں نے سمندری سفر کیا تو اپنا مذہب اور اپنی ذات کھو بیٹھیں گے؟ اس لیے 1824 میں جب انھیں حکم دیا گیا کہ سمندری سفر کرکے برما جائیں اور کمپنی کے لیے جنگ کریں تو انھوں نے انکار کر دیا اگر چہ وہ اس کام کے لیے بری سفر کرنے پر راضی تھے۔ انھیں سخت سزا دی گئی، لیکن چوں کہ یہ تحریک ختم نہیں ہوئی اس لیے کمپنی نے 1856 میں یہ قانون نافذ کیا کہ کمپنی کی فوج کے ہر ملازم کو بطور شرط یہ رضامندی دینی ہوگی کہ وہ حسب ضرورت سمندر پار بھی اپنے فرائض انجام دے گا۔

عوام پر جو کچھ گزر رہی تھی اس کا ردعمل بھی سپاہیوں پر ہو رہا تھا۔ ان میں بہت سے کسان تھے جن کے بال بچے دیہاتوں میں رہتے تھے اس لیے کسانوں کا غصہ جلد ہی فوجی سپاہیوں تک پھیل گیا۔

شکل 2 – شمالی ہندوستان کے ایک بازار میں سپاہی آپس میں خبروں اور افواہوں کا تبادلہ کرتے ہوئے۔

اصلاحات کا نتیجہ

انگریزوں کا یقین تھا کہ ہندوستانی سماج میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے ستی کی رسم کو ختم کرنے اور بیواؤں کی دوبارہ شادی کو رائج کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے۔ انگریزی زبان کی تعلیم کو پر جوش طریقے سے پھیلایا گیا۔ 1830 کے بعد عیسائی مبلغین کو مملکت میں آزادانہ کام کرنے، زمین اور جائداد خریدنے کا حق دیا گیا۔ 1850 میں ایک اور نئے قانون کے ذریعہ عیسائیت قبول کرنے کو آسان بنایا گیا۔ اس قانون کے تحت عیسائیت قبول کرنے والے کو اپنے آبائی جائداد کی وراثت کا حق دار ٹھہرایا گیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے ہندوستانی یہ محسوس کرنے لگے کہ برطانوی حکومت ان کے مذہب، سماجی رسوم اور روایتی طرز زندگی کو تباہ کرنے کے در پے ہے۔ یقیناً کچھ ہندوستانی ایسے بھی تھے جو موجودہ سماجی ڈھانچے میں تبدیلی کے حامی تھے۔ آپ ان مصلحین اور ان کی اصلاحی تحریکات کے بارے میں ساتویں باب میں پڑھیں گے۔

لوگوں کی نگاہوں سے

اس زمانہ میں لوگ برطانوی حکومت کے بارے میں کیا سوچتے تھے یہ جاننے کے لیے آپ ماخذ 1 اور 2 پر نگاہ ڈالیے۔

ماخذ 1

چوراسی قوانین کی فہرست

ذیل میں مہاراشٹر کے کسی گاؤں کے ایک برہمن وشنو بھٹ گوڈ سے کی کتاب ماجھا پرواس (میرا سفر) سے کچھ اقتباسات دیے جارہے ہیں۔ وہ اور اس کا چچا ایک یگیہ (Yajna) میں شرکت کے لیے متھرا روانہ ہوئے۔ وشنو بھٹ لکھتا ہے کہ راستے میں اس کی ملاقات کچھ سپاہیوں سے ہوئی جنھوں نے ان لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا کیوں کہ تین دنوں میں ایک عظیم بغاوت ہونے والی تھی۔ سپاہی نے کہا:

> انگریزوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب کو مٹا کر دم لیں گے .... انھوں نے چوراسی قوانین کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے اور اس کا اعلان کلکتہ کے ایک مجمع میں کیا ہے جس میں تمام راجا اور شہزادے جمع تھے۔ انھوں نے بتایا کہ بادشاہوں (راجاؤں) نے ان قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انگریزوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان قوانین کا نفاذ کیا گیا تو عوامی شورش ہوگی جس کے نتائج خطرناک ہوں گے اور یہ بھی کہ تمام بادشاہ انتہائی غصے میں اپنے ریاستی دارالسلطنت کو واپس ہو گئے ہیں تمام بڑے لوگوں نے ایک پلان بنا لیا ہے۔ اس کے لیے ایک تاریخ طے کر لی گئی ہے اور میرٹھ کی فوجی چھاؤنی سے تمام فوجی چھاؤنیوں کو خفیہ خطوط روانہ کر دیے گئے ہیں۔

وشنو بھٹ گوڈ سے، ماجھا پرواس، صفحہ 24-23

جب سرکشی عوامی بغاوت بن جاتی ہے

اگرچہ حکمرانوں اور محکوموں کے درمیان کشمکش کوئی نئی چیز نہیں لیکن کبھی کبھی یہ کشمکش بڑھ کر عوامی تحریک بن جاتی ہے اور حکومت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ان سب کا ایک مشترک دشمن ہے اس لیے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو متحد رہنا پڑتا ہے، مواصلاتی ربط برقرار رکھنا ہوتا ہے اور گردوپیش کے حالات پر قابو رکھنے کے لیے مکمل اعتماد کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے۔

سرکشی – جب فوجی اجتماعی طور سے اپنے افسروں کی حکم عدولی کرتے ہیں۔

ایسی ہی صورت حال 1857 میں شمالی ہندوستان میں پیدا ہوگئی۔ سو سالہ فتوحات اور اقتدار کے بعد اب ایسٹ انڈیا کمپنی ایک عمومی بغاوت کا سامنا کر رہی تھی جو مئی 1857 میں شروع ہوئی اور اس نے ہندوستان میں کمپنی کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا۔ میرٹھ سے شروع ہونے والی بغاوت کئی مقامات پر پھیل گئی اور سماج کے مختلف طبقے بغاوت پر اتر

© NCERT not to be republished

ماخذ 2

''جلد ہی ہر رجمنٹ میں جوش پیدا ہو گیا''

ایک دوسرا ذریعہ علم اس زمانے کا ہمارے پاس صوبے دار سیتارام پانڈے کی یادداشتوں کی شکل میں ہے۔ سیتارام پانڈے 1812 میں بنگال کی مقامی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوا تھا۔ اس نے 48 سال انگریزوں کی ملازمت کی اور 1860 میں ریٹائر ہوا۔ اس نے بغاوت کے کچلنے میں انگریزوں کی مدد کی اگرچہ اس کا لڑکا خود باغیوں میں شامل تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگریزوں کی گولیوں کا شکار ہوا تھا۔ سبکدوشی کے بعد اپنے کمانڈنگ افسر نورگیٹ کے اصرار پر اس نے اپنی یادداشت مرتب کی۔ اس نے اپنی تحریر کو 1861 میں اودھی زبان میں مکمل کیا جس کا ترجمہ نورگیٹ نے انگریزی زبان میں کر کے سپاہی سے صوبے دار تک کے نام سے شائع کیا۔

سیتارام پانڈے کی تحریر کا ایک اقتباس یہ ہے:

> یہ میری عاجزانہ رائے ہے کہ اودھ کی اس تسخیر نے سپاہیوں میں بداعتمادی پیدا کی اور حکومت کے خلاف سازش کرنے پر آمادہ کیا۔ نواب اودھ اور دہلی کے بادشاہ کے ایجنٹ پورے ہندوستان کے فوجیوں کے ذہن کا پتہ لگانے کے لیے بھیجے گئے۔ انھوں نے فوجیوں کے جذبات کو بیدار کیا کہ ان بیرونی لوگوں نے ہمارے بادشاہ کے ساتھ کتنی ظالمانہ دھوکہ بازی کی ہے۔ انھوں نے ہزاروں جھوٹی باتیں بنائیں اور جھوٹے وعدے کیے تاکہ سپاہی اپنے مالکوں یعنی انگریزوں سے غداری پر آمادہ ہو جائیں اور بادشاہ کو دہلی کا تخت واپس دلانے کا ان کا مقصد پورا ہو۔ ان سفیروں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر فوجی متحد رہیں اور ہدایتوں کی پابندی کریں تو فوج کے لیے ایسا کرنا بالکل ممکن ہے۔

شکل 3 – میرٹھ کے باغی سپاہی اپنے افسروں پر حملہ آور ہوتے، ان کے گھروں میں گھس جاتے اور عمارتوں میں آگ لگا دیتے۔

ماخذ 2 کا بقیہ

یہ اتفاق تھا کہ ایسے ہی نازک وقت میں سرکار نے ہر رجمنٹ سے مختلف توپ خانوں میں نئی رائفلوں کے بارے میں ہدایات دے کر آدمی بھیجے۔ انھوں نے بطور نمونہ کچھ دنوں تک فوجیوں سے اس کی مشق کروائی یہاں تک کہ کسی نہ کسی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ نئے کارتوس گائے اور سور کی چربی سے آلودہ ہیں۔ ہماری رجمنٹ کے کچھ لوگوں نے دوسرے رجمنٹ کے لوگوں کو اس بارے میں لکھا اور اس طرح جلد ہی ہر رجمنٹ میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ پچھلے چالیس برسوں میں سرکار نے لوگوں کے مذہبی جذبات سے ایسا کھلواڑ کبھی نہیں کیا لیکن جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں اودھ کے انضمام نے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر دیا تھا۔ دل چسپی رکھنے والی پارٹیوں نے فوراً ہی یہ بات پھیلا دی کہ انگریزوں کا اصل مقصد لوگوں کو عیسائی بنانا تھا۔ اسی لیے انھوں نے ایسے کارتوس پھیلائے جس کے استعمال سے مسلمان اور ہندو دونوں نجس ہو جاتے ہیں۔

کرنل صاحب کا اب بھی یہی خیال تھا کہ وہ جوش و خروش جس کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے کر چکے تھے، پہلے ہی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا اس لیے انھوں نے مشورہ دیا کہ میں گھر چلا جاؤں۔

سیتا رام پانڈے، سپاہی سے صوبے دار تک، صفحہ 162-163

آئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انیسویں صدی کا پوری دنیا میں سامراجیت کے خلاف یہ سب سے بڑا ہتھیار بند مقابلہ تھا۔

میرٹھ سے دہلی تک

8 اپریل 1857 کو منگل پانڈے نامی ایک سپاہی کو بارک پور میں اپنے افسروں پر حملہ کرنے کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے کچھ دن بعد میرٹھ چھاؤنی کے چند سپاہیوں نے نئے کارتوسوں کے ساتھ جن کے بارے میں شبہ تھا کہ انھیں گائے اور سور کی چربی سے آلودہ کیا گیا ہے، پریڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ 85 سپاہی، افسروں کی حکم عدولی کی پاداش میں ملازمت سے برخاست کر دیے گئے اور انھیں دس سال کی سزا سنا دی گئی۔ یہ واقعہ 9 مئی 1857 کا ہے۔

میرٹھ میں دوسرے ہندوستانی فوجیوں کا ردعمل غیر معمولی ہوا۔ 10 مئی کو سپاہی مارچ

سرگرمی

1۔ سیتا رام اور وشنو بھٹ کے مطابق لوگوں کے ذہن میں کون سے اہم تصور رہے ہوں گے؟

2۔ ان کے خیال میں حکمرانوں نے کیا کردار ادا کیے؟ سپاہی کون سا کردار ادا کرتے نظر آتے تھے؟

فرنگی – غیر ملکی کو حقارت سے فرنگی کہا جاتا تھا۔

© NCERT not to be republished

شکل 4 – کیولری لائنس کی جنگ
3 جولائی 1857 کی شام کو 3,000 سے زیادہ باغی بریلی سے آکر، جمنا پار کرکے دہلی میں داخل ہو گئے اور برطانوی گھوڑسوار چوکی پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ رات بھر جاری رہی۔

کرتے ہوئے جیل گئے، قیدی سپاہیوں کو چھڑا لیا اور برطانوی افسروں پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ انھوں نے بندوقوں اور ہتھیاروں پر قبضہ کیا، انگریزوں کے مکانات اور ان کی جائداد کو آگ لگا دی اور **فرنگیوں** کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ان فوجیوں نے عہد کر لیا تھا کہ ملک سے ان کی حکومت ختم کر دیں گے۔ لیکن پھر ملک پر حکومت کون کرے گا؟ فوجیوں کے پاس جواب تیار تھا — مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر۔

میرٹھ کے سوار سپاہی ساری رات چل کر دوسرے دن صبح سویرے دہلی پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی خبر پہنچتے ہی دہلی میں متعین پلٹنیں بھی بغاوت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں، برطانوی افسران یہاں بھی مار ڈالے گئے۔ ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان پر قبضہ کیا گیا اور مکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ فتحیاب سپاہی لال قلعے کی دیوار کے اطراف جہاں بادشاہ کی قیام گاہ تھی، جمع ہو گئے اور بادشاہ سے ملنے کا مطالبہ کیا۔ شہنشاہ برطانیہ جیسی عظیم طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن سپاہی اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ وہ محل میں زبردستی داخل ہو گئے اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا رہنما بنانے کا اعلان کر دیا۔

بوڑھے بادشاہ کو یہ مطالبہ تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے ملک کے تمام حکمرانوں اور بااختیار افراد کو خطوط لکھے کہ آگے بڑھ کر تمام ریاستوں کا ایک وفاق تشکیل دیں تاکہ انگریزوں سے جنگ کی جا سکے۔ بادشاہ کے اس ایک کام کے نتائج بہت دوررس رہے۔

مغلیہ خاندان نے ملک کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی تھی۔ چھوٹے حکمراں اور سردار مختلف علاقوں کو بادشاہ کے نمائندوں کی حیثیت سے کنٹرول کرتے تھے۔ برطانوی حکومت کی بڑھتی ہوئی وسعت سے خوف زدہ ہوکر ان میں سے اکثر کو یہ خیال ہوا کہ اگر مغل حکمرانی دوبارہ واپس آجائے تو ہم اس کے زیرسایہ اپنے علاقوں میں پھر سے حکومت کرسکتے ہیں۔

برطانویوں کو اتنا کچھ ہوجانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کارتوس کا مسئلہ بالآخر ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی کے اس فیصلے نے ڈرامائی طور سے صورت حال تبدیل کردی۔ لوگوں کو جب کوئی متبادل ملتا ہے تو وہ اس کے حاصل کرنے میں پرجوش ہوجاتے ہیں۔ اس سے انھیں حوصلہ، امید اور اعتماد حاصل ہوتا ہے۔

بغاوت پھیل جاتی ہے

دہلی سے انگریزوں کا صفایا ہوجانے کے بعد تقریباً ایک ہفتہ تک خاموشی رہی۔ اتنا وقت تو خبر کے پھیلنے میں لگا۔ اس کے بعد بغاوتوں کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ پلٹن پر پلٹن باغی ہوتی گئی اور وہ دوسرے باغیوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اہم مراکز جیسے دہلی، کانپور اور لکھنؤ میں جمع ہونے لگیں۔ انھیں کے پیچھے قصبوں اور دیہاتوں کے لوگ بھی بغاوت پر اتر آئے اور مقامی لیڈروں، زمینداروں اور مکھیاؤں کے گرد جو اپنا اختیار قائم کرنے اور انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے خواہش مند تھے، جمع ہوگئے۔ کانپور کے قریب مقیم آنجہانی پیشوا باجی راؤ کے متبنیٰ نانا صاحب نے مسلح فوجیوں کی مدد سے برطانوی توپ خانے کو شہر سے خارج کردیا اور خود کو پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے ماتحت ایک گورنر ہے۔ لکھنؤ میں معزول واجد علی شاہ کے بیٹے برجیس قدر کو نواب بنا دیا گیا۔ اس نے بھی بہادر شاہ کی ماتحتی قبول کی۔ اس کی ماں بیگم حضرت محل نے انگریزوں کے خلاف مورچہ لینے

شکل 5 - جیسے ہی بغاوت پھیلی برطانوی افسران چھائونیوں میں قتل کر دیے گئے۔



© NCERT not to be republished

میں اہم کردار ادا کیا۔ جھانسی میں رانی لکشمی بائی نے باغیوں کا ساتھ دیا اور نانا صاحب کے جنرل تانتیا ٹوپے کے ساتھ مل کر انگریزوں سے جنگ کی۔ مدھیہ پردیش کے منڈلا علاقے میں رام گڑھ کی رانی اونتی بائی نے بغاوت کی اور چار ہزار فوجیوں کی قیادت کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف جنگ کی جنھوں نے اس کی ریاست کا انتظام اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔

انگریز باغیوں کے بہ نسبت تعداد میں بہت کم تھے۔ انھیں بہت سی جنگوں میں شکست ہوئی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ برطانوی اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ اس سے انھیں اور حوصلہ ہوا کہ باغیوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو جائیں۔ اودھ میں خصوصی طور سے اور پورے ملک میں عمومی طور سے بغاوت شروع ہو گئی۔ لفٹننٹ کرنل ٹائٹلر کا اپنے کمانڈر ان چیف کو بھیجا ہوا 6 اگست 1857 کا ایک تار ہمیں ملا ہے جس میں انگریزوں پر منڈلاتے ہوئے خطرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ''ہمارے آدمی مخالفین کی کثرت تعداد اور مسلسل جنگوں سے مغلوب ہو چکے ہیں۔ ہر قریہ اور ہر گاؤں ہمارے خلاف ہے اور زمیندار ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔''

بہت سے نئے لیڈر بھی سامنے آئے۔ مثال کے طور پر مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی جنھوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ انگریزوں کی حکومت جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ انھوں نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور ایک جم غفیر اپنے گرد اکٹھا کر لیا۔ وہ انگریزوں سے لڑنے کے لیے لکھنؤ آئے۔ دہلی میں بہت سے مجاہدین انگریزوں کا قلع قمع کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ بریلی کا ایک سپاہی بخت خان ایک بڑی فوج جمع کر کے دہلی پہنچا۔ یہ باغی فوجوں کا بڑا سالار بن گیا۔ بہار میں کنور سنگھ نام کے ایک بوڑھے زمیندار نے باغی سپاہیوں کا ساتھ دیا اور کئی مہینوں تک انگریزوں سے لڑتا رہا۔ تمام ملک کے جنگجو اور قومی رہنما جنگ میں شریک ہو گئے۔

کمپنی جوابی حملہ کرتی ہے

اس زبردست خلفشار میں بھی کمپنی نے اپنے اوسان بحال رکھے اور آخر کار اس نے پوری قوت سے بغاوت کو کچل دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انگلینڈ سے مزید فوجیں منگوائیں۔ ایسے نئے قوانین بنائے جن سے باغیوں کو باآسانی سزا دی جا سکے۔ پھر کمپنی بغاوت کے خاص مراکز پر چڑھ دوڑی۔ دہلی پر ستمبر 1857 میں دوبارہ قبضہ کر لیا گیا۔ آخری مغل شہنشاہ

سرگرمی

1۔ مغل شہنشاہ نے باغیوں کی مدد کرنا کیوں قبول کیا؟

2۔ اس نے سپاہیوں کی پیش کش کو قبول کرنے سے پہلے جو تجزیہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیے۔

© NCERT not to be republished



شکل 6 – برطانوی فوجیں باغیوں پر حملے کرتے ہوئے جنھوں نے لال قلعہ (دائیں) اور سلیم گڑھ قلعہ (بائیں) پر قبضہ کر رکھا تھا

بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا اور عمر قید کی سزا دی گئی۔ اکتوبر 1858 میں اسے اور اس کی اہلیہ بیگم زینت محل کو رنگون جیل بھیج دیا گیا۔ نومبر 1862 میں بہادر شاہ ظفر کا رنگون جیل میں ہی انتقال ہو گیا۔

دہلی پر دوبارہ قبضہ کا مطلب بہرحال یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد بغاوت ختم ہو گئی۔ عوام انگریزوں سے مقابلہ کرتی رہی اور جنگ بھی جاری رہی۔ برطانیہ کو اس زبردست عوامی بغاوت کو کچلنے میں دو سال لگ گئے۔

لکھنؤ پر مارچ 1858 میں قبضہ کر لیا گیا۔ رانی لکشمی بائی جون 1858 میں شکست کھا کر مقتول ہوئی۔ یہی صورت حال رانی اونتی بائی کے ساتھ رونما ہوئی جس نے کھیری میں فتح حاصل کرنے کے بعد چاروں طرف برطانوی فوجوں سے گھر جانے پر موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ تانتیا ٹوپے وسطی ہند کے جنگلات میں فرار ہو گیا اور بہت سے قبائلی اور کسان سرداروں کی مدد سے گوریلا جنگ لڑتا رہا۔ آخر کار وہ گرفتار ہوا، اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اپریل 1859 میں اسے بھی مار دیا گیا۔

جس طرح انگریزوں کے خلاف فتوحات نے باغیوں کے حوصلے بلند کیے تھے ویسے ہی باغی طاقتوں کی شکست نے وفاداری تبدیل کرنے کو بھی بڑھاوا دیا۔ انگریزوں نے بھرپور کوشش کی کہ لوگوں کی وفاداریاں دوبارہ حاصل کر لیں۔ انھوں نے وفادار

سرگرمی

ان مقامات کی ایک فہرست تیار کیجیے جہاں مئی، جون اور جولائی 1857 میں شورش برپا ہوئی تھی۔

شکل 7 - حصار شکن ٹرین دھلی پہنچتی ھے
شروع میں برطانوی فوج کے لیے دھلی کی مضبوط قلعہ بندی کو توڑنا مشکل ثابت ہوا لیکن 3 ستمبر 1857 کو امداد آپہنچی۔ یہ ایک سات میل لمبی حصار شکن ٹرین تھی، جس میں بیل گاڑیوں پر توپیں اور گولہ بارود تھا، جسے ہاتھی کھینچتے تھے

زمینداروں کو اپنی زمینوں پر روایتی قبضہ جاری رکھنے کو بطور انعام بحال رکھنے کا اعلان کیا۔ ان باغیوں کو جنھوں نے اطاعت قبول کر لی تھی اگر ان کے ہاتھ کسی سفید فام کے خون سے رنگے ہوئے نہیں تھے کہا گیا کہ وہ محفوظ رہیں گے اور زمینوں پر ان کے حقوق بھی سلب نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے باوجود سیکڑوں سپاہیوں، باغیوں، نوابوں اور راجاؤں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور انھیں پھانسی دی گئی۔

شکل 8 – برطانوی فوجیوں نے دھلی میں داخل ہونے کے لیے کشمیری دروازے کو بارود سے اڑا دیا



طوفان کے بعد

انگریزوں نے 1859 کے آخر تک پورے ملک پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرلیا لیکن اب وہ پرانی پالیسیوں کے ساتھ یہاں مزید حکومت نہیں کر سکتے تھے۔
کچھ اہم تبدیلیاں جو انگریزوں نے نافذ کیں درج ذیل ہیں:

شکل 9 – برطانوی فوج کانپور میں باغیوں کو قید کرتے ہوئے
دیکھیے مصور نے کس طرح باغی فوجوں پر انگریز سپاہیوں کی بہادرانہ پیش قدمی کو اجاگر کیا ہے۔

1۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 1858 میں ایک نیا ایکٹ پاس کیا اور ہندوستانی انتظامیہ کو زیادہ سے زیادہ ذمہ دار بنانے کی خاطر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیارات تاج برطانیہ کے حوالہ کر دیے۔ برطانوی مجلس وزرا کا ایک رکن، سکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، مقرر کیا گیا اور اسے ہندوستان میں حکومت کرنے سے متعلق تمام معاملات کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ انڈیا کونسل کے نام سے اسے مشورہ دینے کے لیے ایک کونسل کی تشکیل دی گئی۔ ہندوستان کے گورنر جنرل کو وائسرائے کا خطاب دیا گیا گویا کہ وہ تاج برطانیہ کا براہ راست نمائندہ ہے۔ ان طریقوں سے برطانوی حکومت نے ہندوستان پر براہ راست حکومت کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔

2۔ ریاستی سربراہوں کو یقین دلایا گیا کہ مستقبل میں ان کی حدود مملکت کو کبھی ضم نہیں کیا جائے گا۔ ان کی حکومت ان کے وارثوں یا متبنیٰ کو حاصل رہے گی لیکن انھیں ملکۂ برطانیہ کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس طرح ہندوستانی والیانِ ریاست تاجِ برطانیہ کے ماتحت حکمراں قرار پائے۔

3۔ فیصلہ کیا گیا کہ فوج میں ہندوستانی سپاہیوں کا تناسب کم اور برطانوی سپاہیوں کا تناسب بڑھا دیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ بجائے اودھ، بہار، وسطی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے گورکھا، سکھ اور پٹھانوں میں سے زیادہ سپاہی بھرتی کیے جائیں گے۔

4۔ مسلمانوں کی زمینیں اور جائداد بڑے پیمانہ پر ضبط کی گئیں اور ان کے ساتھ شک وشبہ اور دشمنوں کا سا سلوک کیا گیا، انگریزوں کو یقین تھا کہ بغاوت کی ذمہ داری ان پر

بہت زیادہ عائد ہوتی ہے۔

5۔ برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ روایتی مذاہب اور سماجی رسوم کا احترام کیا جائے گا۔

6۔ مالکان زمین اور زمینداروں کے تحفظ اور زمین پر ان کے مالکانہ حقوق کے تحفظ کی پالیسی اپنائی جائے گی۔

اس طرح 1857 کے بعد تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔



شکل *10* – شمالی ہندوستان میں بغاوت کے کچھ اہم مراکز

© NCERT not to be republished

دوسری جگہوں پر

امن کی آسمانی سلطنت کے لیے

شکل 11– تائی پنگ کی فوج اپنے رہنما سے ملاقات کرتی ہوئی

جس وقت 1857 میں ہندوستان میں بغاوت پھیل رہی تھی، اسی وقت چین میں بھی ایک زبردست عوامی سرکشی سر ابھار رہی تھی۔ یہ تحریک 1850 میں شروع ہوئی اور اسے 1860 کے وسط تک دبایا جا سکا۔ ہزاروں غریب مزدور ہانگ زیوقوان (Xiu qu an) کی سربراہی میں جنگ کرنے اور امن کی عظیم آسمانی سلطنت قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسے تائی پنگ بغاوت کا نام دیا گیا۔

ہانگ زیوقوان ایک نیا عیسائی تھا جو چین کے روایتی مذاہب مثلاً کنفیوشین ازم اور بدھ مت کے خلاف تھا۔ تائی پنگ کے باغی ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے جہاں ایک نئے طرز کے عیسائیت کا دور دورہ ہو، جہاں کسی کی نجی جائداد نہ ہو، جہاں سماجی نابرابری اور مرد و زن کے درمیان تفریق نہ ہو اور جہاں افیون، تمباکو، شراب اور دوسرے کام جیسے جوا، قحبہ گری اور غلامی وغیرہ ممنوع ہوں۔

برطانیہ اور فرانس کی مسلح فوجوں نے جو اس وقت چین میں متحرک تھیں، تائی پنگ بغاوت کو کچلنے میں قینگ خاندان کے شہنشاہ کی مدد کی۔

آئیے تصور کریں

فرض کیجیے کہ آپ بغاوت کے دوران اودھ میں ایک برطانوی افسر ہیں۔ آپ اپنے باغیوں سے جنگ کرنے کے منصوبہ کو کس طرح بالکل خفیہ رکھیں گے؟

دوہرائیے

1۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا کیا مطالبہ تھا جسے انگریزوں نے ٹھکرا دیا تھا؟

2۔ انگریزوں نے عیسائیت اختیار کرنے والوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا کیا؟

3۔ نئے کارتوسوں کے استعمال کا حکم دیے جانے پر سپاہیوں کے کیا اعتراضات تھے؟

4۔ مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے آخری ایام کیسے گزارے؟

© NCERT not to be republished

گفتگو کیجیے

5۔ مئی 1857 سے قبل برطانوی حکمرانوں کے ہندوستان میں اپنی پوزیشن پر اعتماد کرنے کے کیا اسباب ہو سکتے تھے؟

6۔ بہادر شاہ ظفر کے باغیوں کو تعاون دینے کے حکمراں خاندانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟

7۔ انگریز اودھ کے باغی زمینداروں کی اطاعت حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟

8۔ 1857 کی بغاوت کے بعد انگریزوں نے اپنی پالیسی کیسے تبدیل کی؟

کر کے دیکھیے

9۔ اپنے علاقے کے لوگوں اور اپنے اہل خاندان کو سن ستاون کی لڑائی کے بارے میں جو قصے یا گیت یاد ہوں انھیں تلاش کیجیے۔ اس عظیم شورش کے بارے میں کون سی یادیں لوگوں کو عزیز ہیں؟

10۔ رانی لکشمی بائی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے وہ کن طریقوں سے اپنے وقت کی ایک غیر معمولی خاتون بن سکی؟

شکل 12 – لکھنؤ ریزیڈنسی کے کھنڈرات
جون 1857 میں باغی طاقتوں نے ریزیڈنسی کا محاصرہ شروع کر دیا۔ وہاں کی عمارتوں میں انگریز عورتوں، مردوں اور بچوں کی کثیر تعداد پناہ لیے ہوئی تھی۔
باغیوں نے چہار دیواری کا محاصرہ کر لیا اور عمارتوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ انھیں عمارتوں کے ایک کمرہ میں اودھ کے چیف کمشنر ہنری لارنس کی ایک گولے سے موت ہو گئی۔
دیکھیے کہ عمارتوں میں گزشتہ واقعات کی کیا کیا نشانیاں موجود ہیں۔